


کیا آپ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟

سگریٹ نوشی چھوڑنے کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ رہنما ہدایت کے
ساتھ ادویات کا استعمال کریں۔

اپنے میونسپلٹی کے ویلنیس سینٹر* پر اسے مفت حاصل کریں۔



آپ میں سے جو لوگ ہر روز سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اب 12 ہفتوں تک سگریٹ
نوشی چھوڑنے کے لیے مفت اور منظور شدہ ادویات رہنما ہدایت یا کورسز کے
ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔

اپنی میونسپلٹی کے ویلنیس سینٹر سے رابطہ کریں۔

قسمت آپ پر ہمیشہ مہربان رہے!

SLUTTA.NO



HelseDirektoratet

slutta.no: پر مزید پڑھیں

* پیش کش کا اطلاق مندرجہ ذیل میونسپلٹیز پر ہوتا ہے: Holmestrand, Hole, Hol, Hemsedal, Gol, Flå, Flesberg, Drammen, Bærum, Asker, Ål, Øvre Eiker, Sigdal, Rollag, Ringerike, Nore og Uvdal, Nesbyen, Modum, Lier, Krødsherad, Kongsberg, Jevnaker

اس پراجیکٹ میں حصہ لینے والی میونسپلٹیز کا عمومی جائزہ

ASKER



BÆRUM



DRAMMEN



FLESBERG



FLÅ



GOL



HEMSEDAL



HOL



HOLE



HOLMESTRAND



JEVNAKER



KONGSBERG



KRØDSHERAD



LIER



MODUM



NESBYEN



NORE OG UVDAL



RINGERIKE



ROLLAG



SIGDAL



ØVRE EIKER



ÅL

